



سوال

(393) عورت اور مرد کی نماز جنازہ کی دعاؤں میں فرق

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر میت عورت ہو تو دعائے جنازہ میں اس کے لیے صیغہ مذکر سے دعا پڑھی جائے: "اللهم اغفر لہ" یا صیغہ مؤنث سے "اللهم اغفر لہا"؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس کے لیے دعا صیغہ تانیث کے ساتھ ہونی چاہئے، اور یوں کہا جائے۔۔۔ "اللهم اغفر لہا وارحمہا واعف عنہا" لہذا اگر سامنے دو میتیں ہوں تو صیغہ تثنیہ سے کہا جائے گا۔۔۔ "اللهم اغفر لہما" اگر زیادہ میتیں ہوں تو ہم کہیں گے:۔۔۔ "اللهم اغفر لہم" لہذا، اگر وہ سب عورتیں ہوں تو ہم کہیں گے۔۔۔ "اللهم اغفر لہن" لہذا، اگر مرد اور عورتیں ہوں تو صیغہ مذکر کو ترجیح دی جائے گی اور کہیں گے۔۔۔ "اللهم اغفر لہم" لہذا۔۔۔ الغرض دعا میت یا اموات کے لحاظ سے ہو اور ضمیر بدل لی جائے۔ اور اس کی نظیر بعض وجوہ سے یہ حدیث ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مسند احمد وغیرہ میں غم واندوہ کی دعا وارد ہے۔۔۔ اس میں ہے کہ "اللهم انی عیبک، انہن عیبک، انہن ائمتک" (مسند احمد بن حنبل: 391/1، حدیث: 3712 ضعیف۔ صحیح ابن حبان: 3/3253، حدیث: 972 اسنادہ صحیح) تو اس میں عورت یوں کہے گی "اللهم انی ائمتک بنت عبدک، بنت ائمتک"۔۔۔ لہذا

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 329

محدث فتویٰ